



صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تمہارا آباو اجداد جو کچھ کہتے ہیں، اسے چھوڑ دو اور وہ تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے اور سچائی کا

ابو سفیان صخر بن حرب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ رقل نے پوچھا: وہ شخص یعنی نبی ﷺ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا: وہ کہتا ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تمہارا آباو اجداد جو کچھ کہتے ہیں، اسے چھوڑ دو اور وہ تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے اور سچائی اور پاک دامنی اپنانے اور صلہ رحمی کرنے کی تلقین کرتا ہے

[صحیح] [متفق علیہ]

ابو سفیان صخر بن حرب رضی اللہ عنہ کی رقل کے ساتھ ہونے والی مشہور گفتگو سے ابو سفیان اس وقت مشرک تھے کیوں کہ انہوں نے بت دیر سے صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان اسلام قبول کیا تھا ابو سفیان قریش کے کچھ لوگوں کے ہم راہ شام میں رقل کے پاس آئے رقل اس وقت عیسائیوں کا بادشاہ تھا اس نے تورات اور انجیل پڑھ رکھی تھی اور سابقہ کتابوں کا علم رکھتا تھا وہ ایک زیرک بادشاہ تھا اس نے جب حجاز سے آئے والے ابو سفیان اور ان کے ہم راہیوں کے بارے میں سنا، تو انہیں بلا بھیجا اور ان سے نبی ﷺ کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا کہ آپ کا نسب کیا ہے، آپ کے صحابہ کیسے ہیں، وہ آپ کی کیسے توقیر کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ کس حد تک وفادار ہیں؟ وہ جو بات پوچھتا، یہ لوگ اس کے بارے میں بتاتے، یہاں تک کہ وہ جان گیا کہ آپ ﷺ وہی نبی ﷺ ہیں، جس کی خبر سابقہ کتابوں نے دی ہے تاہم حکمت الہی کے پیش نظر وہ اپنی بادشاہت کی لالچ میں اسلام قبول نہ کیا العیاذ باللہ ابو سفیان سے اس نے جو سوالات کیے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ نبی ﷺ انہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ ابو سفیان نے اسے بتایا کہ آپ ﷺ انہیں حکم دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ ٹھہرائیں اور اللہ کے سوا کسی بھی فرشتے، رسول، درخت، پتھر اور سورج و چاند وغیرہ کی عبادت نہ کریں عبادت کی سزاوار صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے تمام انبیاء نے اسی بات کی دعوت دی چنانچہ نبی ﷺ بھی وہی پیغام لے کر آئے، جو آپ ﷺ سے پہلے سابقہ انبیاء لے کر آئے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہونی چاہیے اور یہ کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور وہ (یعنی نبی ﷺ) کہتے ہیں کہ: "جس دین پر تمہارا آباو اجداد تھے، اسے چھوڑ دو" یہ حق کا برملا اظہار ہے ان کے آباو اجداد جو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، نبی ﷺ نے اسے چھوڑ دینے کا حکم فرمایا تاہم ان کے آباو اجداد میں جو اعلیٰ اخلاقی خوبیوں تھیں، ان کے ترک نہ کرنے کا آپ ﷺ نے حکم نہیں دیا ابو سفیان نے کہا: "اور وہ تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے" نماز بند ہے اور اس کے رب کے مابین تعلق کا نام ہے ارکان اسلام میں توحید و رسالت کی شہادت کے بعد یہ سب سے اہم رکن ہے یہی مؤمن و کافر کے مابین مابہ الامتیاز ہے یہی وہ معاملہ ہے، جو ہمارے اور مشرکین و کفار کے مابین ہے جیسا کہ نبی ﷺ نے فرمایا: "ہمارے اور ان کے مابین جو معاملہ ہے، وہ نماز ہے جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے یقیناً کفر کیا" ابو سفیان نے کہا: "وہ تمہیں سچائی اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں" نبی ﷺ نے اپنی امت کو سچائی کا حکم دیتے ہیں ایسے ہی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ" (التوبة: 119) ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو سچائی ایک اعلیٰ اخلاقی صفت ہے، جس کی دو اقسام ہیں: اللہ کے ساتھ سچائی اور اللہ کے بندوں کے ساتھ سچائی اور دونوں ہی اعلیٰ اخلاقی صفات میں سے ہیں ابو سفیان نے کہا: "اور آپ ﷺ میں پاک دامنی اختیار کرنے کا حکم دیتے

ہیں "عفاف" کا معنی ہے: پاک دامنی عفت (پاک دامنی) کی دو اقسام ہیں: شرم گاہ کی شہوت سے عفت اور پیٹ کی شہوت سے عفت۔ پہلی قسم کی عفت سے مراد یہ ہے کہ انسان زنا اور اس کے وسائل و ذرائع سے دور رہے، جو اس کے لیے حرام ہیں۔ دوسری قسم کی عفت، پیٹ کی شہوت سے عفت ہے یعنی لوگوں کے پاس جو کچھ (سامان دنیا) ہے، اس سے عفت اختیار کرنا اور ان سے مانگنے سے پرہیز کرنا، بایں طور کہ وہ کسی شخص سے کوئی شے نہ مانگے کیوں کہ مانگنا باعث ذلت ہے اور مانگنے والے کا ہاتھ کم تر اور نچلا ہوتا ہے، جب کہ دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے۔ چنانچہ سوائے اس شے کے جس کے بغیر چارے ہی نہ ہو، آپ کے لیے کسی سے مانگنا جائز نہیں۔ پانچویں شے جس کے بارے میں ابو سفیان نے بتایا وہ صلہ رحمی ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے جن لوگوں سے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، انسان ان سے صلہ رحمی کرے اور اس سلسلے میں ان سے اپنی رشتہ داری کے درجات کو ملحوظ رکھے۔ رشتہ داروں میں سب سے پہلے والدین آتے ہیں، جن کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا نیکی بھی ہے اور صلہ رحمی بھی۔ رشتہ دار جتنا قریبی ہو، اسی قدر اس سے صلہ رحمی ہوگی۔ چنانچہ چچا کی بہ نسبت بھائی سے صلہ رحمی کی زیادہ تاکید ہے اور باپ کے چچا کی بہ نسبت اپنے چچا سے صلہ رحمی زیادہ ہے۔ صلہ رحمی کے اس طریقے سے ہو سکتی ہے، جو لوگوں کے نزدیک معروف ہے۔

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/3154>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

